

English

Lantern for pillar candle

IMPORTANT!

Use only 1 single wick pillar candle with a maximum height of 19 cm (7 1/2") and a maximum diameter of 7 cm (2 3/4").

Not intended for hanging.

IMPORTANT!

The lantern can get hot. Place it on a fireproof, heat-resistant material, a safe distance away from combustible materials. Never leave a lit candle unattended. Do not drop any objects, incl. matches, on the candle. Extinguish by snuffing out the flame.



Design and Quality
IKEA of Sweden

Español

Farol para vela gruesa

IMPORTANTE:

Utiliza únicamente 1 vela de una altura máxima de 19 cm y un diámetro máximo de 7 cm.

No se ha diseñado para que se cuelgue.

IMPORTANTE:

El farol se puede recalentar. Colócalo sobre un material ignífugo y resistente al calor, a una distancia segura de materiales combustibles. Nunca dejes una vela encendida sin vigilancia. No dejes caer ningún tipo de objeto, incluidas las cerillas, en la vela. Apaga la llama con un apagavelas.

Portugues

Lanterna para vela grossa

IMPORTANTE!

Use apenas 1 vela grossa com uma altura máxima de 19cm e um diâmetro máximo de 7cm.

Não se pode pendurar.

IMPORTANTE!

A lanterna pode aquecer. Coloque-a sobre um material não inflamável e resistente ao calor, a uma distância segura de materiais combustíveis. Nunca deixe uma vela acesa sem vigilância. Não deixe cair nenhum tipo de objeto, incluindo fósforos, sobre a vela. Apagar extinguindo a chama.

中文

柱形蜡烛灯

重要须知!

只能使用1支高度不超过19cm (7 1/2英寸)、直径不超过7cm (2 3/4英寸)的单芯柱形蜡烛。

不适合悬挂。

重要须知!

灯笼会变热。请将其放置在防火耐热材料上，并与可燃材料保持安全距离。点燃的蜡烛必须有人看管。请勿让任何物品（包括火柴）掉落在蜡烛上。掐灭火焰即可熄灭蜡烛。

繁中

柱狀蠟燭燭台

重要事項!

只可使用1個單芯柱狀蠟燭(高度最高19公分，直徑最長7公分)。

不可懸掛使用。

重要訊息!

由於燭台會變熱，請將燭台懸掛或放置於防火耐熱材質上，與可燃物質保持安全距離。離開時不可留下點燃中的蠟燭。不可將任何物品丟在蠟燭上，包括火柴。請弄熄燭火。

한국어

기둥 모양 양초용 랜턴

중요!

최고 높이가 19cm(7 1/2"), 최대 지름이 7cm(2 3/4")인 심지가 1개 있는 기둥 모양 양초만 사용하세요.

걸어두고 사용하지 마세요.

중요!

랜턴은 사용 시 매우 뜨거워집니다. 내화 및 내열성 받침 위에 올려놓고, 가연성 재질로부터 안전한 거리에 두세요. 불이 붙은 초를 방지하지 마세요. 초 위에 성냥을 비롯한 어떠한 물건도 떨어뜨리지 마세요. 불꽃을 덮어서 완전하게 끄세요.

日本語

ピラーキャンドル用ランタン

重要!

高さ19cm (7.5インチ) 以下、直径7cm (2 ¾インチ) 以下のピラーキャンドル (芯1本) を1つだけ使用してください。

つり下げて使用することはできません。

重要!

ランタンは熱くなります。耐火・耐熱性素材の上に置いてください。燃えやすいものを近くに置かないでください。火を灯している間はそばを離れないでください。マッチなどをキャンドルの上に落とさないでください。火を消すときはキャンドル火消しなどを使い、安全な方法で消してください。

Bahasa Indonesia

Lanterna untuk lilin pilar

PENTING!

Gunakan hanya 1 lilin pilar satu sumbu dengan tinggi maksimal 19 cm (7 1/2") dan diameter maksimal 7 cm (2 3/4").

Tidak ditujukan untuk digantung.

PENTING!

Lanterna dapat menjadi panas. Tempatkan pada bahan tahan api, tahan panas, pada jarak aman jauh dari bahan mudah terbakar. Jangan pernah meninggalkan lilin menyala tanpa pengawasan.

Jangan menjatuhkan benda apapun pada lilin, termasuk korek api. Padamkan dengan meniup sumbu api.

العربي

فانوس لقالب شمع

هام!

أستخدمي قالب شمع واحد فقط إرتفاعه الأقصى 19 سم (7 بوصة) وقطره الأقصى 7 سم (2 3/4 بوصة).

ليس مخصص للتعليق.

هام!

يمكن للفانوس أن يصبح ساخناً. ضعیه علی مادة مقاومة للحرارة، ضد الحريق، علی مسافة آمنة بعيداً عن المواد القابلة للإحتراق. لا تتركی أي شمعة مشتعلة دون مراقبة. لا تلقي بأي جسم علی الشمعة بما فيه أعواد الكبريت. للإطفاء، استخدمی مطفأة الشموع.

ไทย

โคมเทียนใส่เทียนแท่ง

สำคัญ!

ใช้ใส่เทียน 1 ไล่เทียนที่มีความสูงไม่เกิน 19 ซม. (7.5 นิ้ว) และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 7 ซม. (2.75 นิ้ว) เท่านั้น ห้ามห้อยหรือแขวน

สำคัญ!

โคมอาจร้อนขณะใช้ ให้วางโคมไว้บนวัสดุกันร้อนและถนนไฟ และวางให้ห่างจากวัสดุที่ติดไฟได้ ห้ามจุดเทียนทิ้งไว้โดยไม่มีคนอยู่เด็ดขาด อย่าทิ้งไม้ขีดไฟ หรือสิ่งอื่นลงบนเปลวเทียน และดับเทียนให้สนิท

Tiếng Việt

Lồng đèn dành cho nến hình trụ

QUAN TRỌNG!

Chỉ sử dụng 1 nến trụ bắc đơn có chiều cao tối đa 19 cm (7 1/2") và đường kính tối đa 7 cm (2 ¾").

Không phù hợp để treo.

QUAN TRỌNG!

Lồng đèn có thể trở nên rất nóng. Đặt đèn lên trên vật liệu chống cháy, chịu nhiệt, và cách các vật liệu dễ cháy một khoảng an toàn. Tuyệt đối không để nến cháy mà không có sự giám sát. Không thả các vật thể, như diêm, vào nến. Tắt nến bằng cách dập tắt ngọn lửa.

日本語

ピラーキャンドル用ランタン

重要!

高さ19cm (7.5インチ) 以下、直径7cm (2 ¾インチ) 以下のピラーキャンドル (芯1本) を1つだけ使用してください。

つり下げて使用することはできません。

重要!

ランタンは熱くなります。耐火・耐熱性素材の上に置いてください。燃えやすいものを近くに置かないでください。火を灯している間はそばを離れないでください。マッチなどをキャンドルの上に落とさないでください。火を消すときはキャンドル火消しなどを使い、安全な方法で消してください。

Bahasa Malaysia

Lanterna untuk lilin blok

PENTING!

Gunakan hanya lilin blok 1 sumbu dengan ketinggian maksimum 19 cm (7 1/2") dan diameter maksimum 7 cm (2 ¾").

Bukan untuk digantung.

PENTING!

Lanterna boleh menjadi panas. Letakkannya pada bahan kalis api, tahan haba, dan jauhkan daripada bahan mudah terbakar. Jangan biarkan lilin menyala tanpa seliaan. Jangan jatuhkan sebarang objek, termasuk mancis pada lilin. Padamkan lilin dengan memadamkan api pada sumbu.

ไทย

โคมเทียนใส่เทียนแท่ง

สำคัญ!

ใช้ใส่เทียน 1 ไล่เทียนที่มีความสูงไม่เกิน 19 ซม. (7.5 นิ้ว) และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 7 ซม. (2.75 นิ้ว) เท่านั้น ห้ามห้อยหรือแขวน

สำคัญ!

โคมอาจร้อนขณะใช้ ให้วางโคมไว้บนวัสดุกันร้อนและถนนไฟ และวางให้ห่างจากวัสดุที่ติดไฟได้ ห้ามจุดเทียนทิ้งไว้โดยไม่มีคนอยู่เด็ดขาด อย่าทิ้งไม้ขีดไฟ หรือสิ่งอื่นลงบนเปลวเทียน และดับเทียนให้สนิท